

Joint Press Release on India-EU Strategic Partnership Review

October 19, 2021

ہندوستان- یورپی یونین کے اسٹریٹجک شراکت داری کے جائزے کے حوالے سے
مشترکہ پریس ریلیز

19 اکتوبر، 2021

بھارت- یورپی یونین اسٹریٹجک پارٹنرشپ ریویو کا تیسرا دور 19 اکتوبر 2021 کو برسلسز میں ہوا۔ دونوں فریقین نے کووڈ-19 وبائی امراض سے نمٹنے اور معیشت، معاشرے کے ساتھ ساتھ افراد پر اس کے اثرات سے نمٹنے کے لئے مل کر کام کرنے کے بہترین طریقوں کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔

8 مئی 2021 کو ہندوستان- یورپی یونین کے رہنماؤں کی میٹنگ کے بعد، جس نے ہندوستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے ایک واضح راستہ طے کیا ہے، اس میٹنگ سے انڈیا- یورپی یونین شراکت داری: 2025 تک کے لئے ایک روڈ میپ کے تحت انڈیا- یورپی یونین اسٹریٹجک شراکت داری کے جامع جائزہ لینے کا موقع ملا۔

اس بات چیت میں خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلی، حیاتیاتی تنوع کے نقصان اور آلودگی کے چیلنجوں سے نمٹنے اور آئندہ موسمیاتی کوپ 26 کی کامیابی میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ہندوستان اور یورپی یونین نے ہندوستانی اور یورپی یونین کے رہنماؤں کے متوازن، پرعزم، جامع اور باہمی فائدہ مند تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے پر عملدرآمد کے لیے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا، اور انفرادی سرمایہ کاری کے تحفظ کے معاہدے اور جغرافیائی انڈیکیشنز پر ایک علیحدہ معاہدے پر مذاکرات شروع کیے۔ انہوں نے ہندوستان- یورپی یونین کنیکٹوٹی پارٹنرشپ کے نفاذ کے حوالے سے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جس پر مئی 2021 میں رہنماؤں کی میٹنگ میں اتفاق کیا گیا تھا۔ ہندوستان اور یورپی یونین نے تحقیق، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تبدیلی کے شعبوں میں مزید تعاون کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ہجرت اور نقل و حرکت پر مشترکہ ایجنڈے کے مسلسل نفاذ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اپریل 2021 میں 9 ویں ہندوستان- یورپی یونین انسانی حقوق کے کامیاب ڈائیلگ کو یاد کرتے ہوئے، ہندوستان اور یورپی یونین 2022 میں ڈائیلگ کے اگلے ایڈیشن کے منتظر ہیں۔

اس اجلاس کی صدارت مشترکہ طور پر بھارتی وزارت خارجہ میں سیکرٹری (مغرب) محترمہ ریئات سندھو اور یورپی بیرونی ایکشن سروس میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل برائے اقتصادی اور عالمی مسائل محترمہ ہیلینا کونگ نے کی۔

نئی دہلی

19 اکتوبر، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.